

برائے فوری اجراء

برامپٹن ٹرانزٹ مؤرخہ 2 جولائی کے بعد کرایوں کی وصولی اور گاڑیوں میں اگلے دروازے سے سوار ہونے کو دوبارہ جاری کر رہا ہے اور نان میڈیکل ماسک پہننا لازمی قرار دے رہا ہے

برامپٹن، آن (3 جون 2020) - آج میئر پیٹرک براؤن اور برامپٹن ٹرانزٹ نے سٹی آف برامپٹن کو دوبارہ کھولنے اور بحالی کے منصوبے کے حصے کے طور پر کئی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ بروز جمعرات، 2 جولائی سے شروع کرتے ہوئے، کرایے کی ادائیگی اور آگے کی جانب سے سواروں کے داخل ہونے کا دوبارہ سے آغاز کر دیا جائے گا۔ پبل پبلک ہیلتھ اور حکومت اونٹاریو کی جانب سے نقل و حمل کی عوامی سہولیات میں ماسک پہننے کی شدید سفارش کے بعد، برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافروں اور آپریٹرز کے لیے 2 جولائی سے بسوں میں اور ٹرمینلز پر نان میڈیکل ماسک پہننا لازمی ہو گا۔

مسافروں اور عملے کی صحت و سلامتی برامپٹن ٹرانزٹ اور سٹی آف برامپٹن کی اولین ترجیح ہے اور ان تبدیلیوں کا نفاذ ان دونوں کو یقینی بناتے ہوئے کیا جائے گا۔

کرایہ کی ادائیگی

مؤرخہ 2 جولائی سے شروع کرتے ہوئے برامپٹن ٹرانزٹ کی تمام بسوں پر کرایے کی ادائیگی ضروری ہو گی۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ بغیر رابطے کے ادائیگی کی ایک صورت کے طور پر اپنا کرایہ ادا کرنے کے لیے اپنے PRESTO کارڈ استعمال کریں۔ کرایوں کی مکمل تفصیلات کے لیے [یہاں کلک کریں](#)۔

بزرگ افراد کے لیے نقل و حمل کی قابل رسائی سہولیات فراہم کرنا سٹی کی اولین ترجیح ہے اور کورونا وائرس کے اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام فعال سینئر ID کارڈز کی تاریخ تنسیخ کو غیر معینہ مدت تک منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ٹرانزٹ ٹرمینلز پر کسٹمر کاؤنٹرز 2 جولائی سے پہلے دوبارہ کھلے گئے۔ ہم ان کے دستیاب ہوتے ہی اپ ڈیٹس فراہم کریں گے۔

کرایوں میں 2020 کے لیے مجوزہ تبدیلیوں کو تاحکم ثانی ملتوی کر دیا گیا ہے۔

اگلے دروازے سے سوار ہونا

برامپٹن ٹرانزٹ 2 جولائی سے شروع کرتے ہوئے تمام مسافروں کو اگلے دروازے سے بیٹھنے کی اجازت دے گا۔ سواریاں پچھلے دروازوں سے باہر نکلیں گی۔ گاہکوں کو ایک دوسرے سے دو میٹر (چھ فٹ) دور رہ کر جسمانی فاصلہ بندی برقرار رکھنے، کثرت سے ہاتھ دھونے اور اپنی کھنی میں کھانسنے اور چھینکنے کی یاددہانی کروائی جاتی ہے۔

نان میڈیکل ماسک

پبل پبلک ہیلتھ اور حکومت اونٹاریو کی جانب سے نقل و حمل کی عوامی سہولیات میں ماسک پہننے کی شدید سفارش کے بعد، برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافروں اور آپریٹرز کے لیے 2 جولائی سے بسوں میں اور ٹرمینلز پر نان میڈیکل ماسک پہننا لازمی ہو گا۔

چونکہ ماسک لازمی ہوں گے، دو سال سے کم عمر بچے یا ایسی معذوریوں یا دیگر طبی مسائل، جن کی وجہ سے ماسک نہ پہنا جا سکتا ہو، کے حامل لوگوں کے لیے یہ لازمی نہیں ہو گا۔

نان میڈیکل ماسک کے حوالے سے مزید معلومات، بشمول یہ کہ اپنے نان میڈیکل ماسک کو کیسے درست طریقے سے پہننا، فٹ کرنا، ہٹانا اور صاف کرنا ہے، کے بارے میں جاننے کے لیے پبل پبلک ہیلتھ کی [ویب سائٹ](#) اور حکومت اونٹاریو کی [ویب سائٹ](#) ملاحظہ کریں۔

کووڈ-19 کے لیے حفاظتی اقدامات

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کاروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو موجودہ طور پر ہر 24 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

سٹی مسافروں پر زور دیتا ہے کہ وہ بسوں، ٹرمینلز اور بس اسٹاپس اور یہاں تک کہ ماسک پہنتے ہوئے بھی جسمانی فاصلہ بندی پر عمل کریں۔ مسافروں کو اس بات کی بھی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنی ذاتی جراثیم کش، مثلاً ہینڈ سینیٹائزر یا وائپس، اپنے ساتھ رکھیں، کثرت سے اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنی کہنی میں کھانسیں یا چھینکیں۔

پیل پبلک ہیلتھ کی جانب سے رہنمائی کے ساتھ، سٹی آف برامپٹن تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ غیر طبی ماسک پہنیں، خصوصاً ایسی جگہوں پر، جہاں جسمانی فاصلہ بندی مشکل ہو۔ خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن اپنے شراکت داروں پیل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجنسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے www.brampton.ca/covid19 ملاحظہ کریں اور سروس اپ ڈیٹس کے لیے www.bramptontransit.com پر جائیں یا Twitter پر [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) کو فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔

اقتباسات

"ہمیں کووڈ-19 کی عالمی وباء کے دوران خود کو اور ایک دوسرے کو محفوظ رکھنے کے لیے مل کر کام کرنا ہو گا۔ اگر آپ برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافر ہیں، تو میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ آپ ایک نان میڈیکل ماسک لیں اور بسوں اور ٹرمینلز پر پہنیں اور اس حوالے سے پیل پبلک ہیلتھ اور حکومت اونٹاریو کی رہنما ہدایات پر عمل کریں کہ تمام لوگوں کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنا نان میڈیکل ماسک کیسے پہننا، فٹ کرنا، اتارنا اور صاف کرنا ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"کووڈ-19 کے دوران رہائشیوں کو حرکت میں رکھنا ہماری سٹی کونسل کے لیے ایک ترجیح ہے۔ برامپٹن ٹرانزٹ کے عملے اور مسافروں کے لیے یہ اضافی حفاظتی اقدامات اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہم اس بات کو یقینی بنانا جاری رکھیں کہ ہمارا ٹرانزٹ سسٹم ایک محفوظ انتخاب رہے، جبکہ سٹی ہمارے شہر کو کھولنے کے لیے اہم اقدامات اٹھا رہا ہے۔"

- رووینا سیٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن اپنی کمیونٹی کو ایک صحت مند اور محفوظ ٹرانزٹ سروس فراہم کرنے کے لیے پر عزم ہے۔ برامپٹن ٹرانزٹ کرایوں اور اگلے دروازے سے گاڑی پر چڑھنے کو دوبارہ متعارف کروانے اور پیل پبلک ہیلتھ اور حکومت اونٹاریو کی جانب سے رہنمائی کے ساتھ ایک صحت مند اور محفوظ طریقے سے نان میڈیکل ماسک کو لازمی قرار دینے کا نفاذ کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہا ہے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔



Media Release

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca